

ÄLSKVÄRD

Design Sarah Fager



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4
Español	6
Portugues	8
中文	10
繁中	14
한국어	18
日本語	20
Bahasa Indonesia	22
Bahasa Malaysia	24
عربي	26
ไทย	28

English

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING

- **Do not use this product without reading the instructions for use first**
- **Stop using the product as soon as the child can sit or kneel or pull itself up**
- **Placing additional items in the product may cause suffocation**
- **Do not place the product close to another product, which could present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blind/curtain cords, etc.**

- **Do not use more than one mattress in the product**

WARNING:

- Do not use the bassinet without the frame.
- When the baby is in the cradle, do not leave the baby unattended.

WARNING

- The gap between the mattress and all sides of the product shall not be greater than 30 mm.

Important safety information!

- Place the product on a horizontal floor
- Do not let young children play unsupervised in the vicinity of the product
- Make sure the product is locked in the fixed position when a child is unsupervised in it
- Tighten all assembly fittings properly before use. Check all fittings regularly and retighten as necessary. Care should be taken that no screws are loose, because a child could trap parts of the body or clothing (e.g. strings, necklaces, ribbons for babies' soothers, etc.), which would pose a risk of strangulation
- Thickness of the mattress shall be such that the height from the upper surface of the mattress to the upper edge of the frame is at least 200 mm (7 7/8"), see maximum mattress mark
- Be aware of the risk of burning cigarettes, open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the product
- Do not use the product if any part is broken, torn or missing
- Recommended size of suitable mattress is: 40x73 cm (15 3/4" x 28 3/4")
- Recommended for ages 0-5 months or maximum 9kg

Care and clean

- Wipe clean with a cloth damped in mild cleaner

- For textile follow the washing instructions on the product

Español

**¡IMPORTANTE!
LEER
ATENTAMENTE Y
GUARDAR PARA
CONSULTAR EN
EL FUTURO**

 **ADVERTENCIA**

- Leer las instrucciones antes de utilizar este producto.
- Dejar de utilizar el producto en cuanto el niño sea capaz de sentarse, arrodillarse o levantarse.
- No colocar objetos encima del producto, ya que podría provocar riesgo de asfixia.
- No colocar el producto cerca de otro que pueda presentar riesgo de asfixia o

estrangulamiento, como por ejemplo, cuerdas, cordones de estor, etc.

- **No utilizar más de un colchón en el producto.**

AVISO:

- No utilices la cuna sin la estructura.
- No dejes al bebé solo cuando esté en la cuna.

ADVERTENCIA:

- El hueco entre el colchón y todos los laterales del producto no debe superar los 30 mm.

Información importante de seguridad

- Coloca el producto sobre una superficie plana.
- No dejes que los niños jueguen cerca del producto sin supervisión.
- Asegúrate de que el producto está asegurado en la posición fija si el niño está solo.
- Antes de usarlo, asegúrate de apretar bien los herrajes de montaje. Comprueba con regularidad todos los herrajes y apriétalos de nuevo si fuera necesario. Comprueba que no hay herrajes sueltos, ya que una parte del cuerpo o la ropa del bebé (p. ej. cuerdas, collares, cintas para el chupete, etc.) podrían quedarse enganchados provocando riesgo de estrangulamiento.
- El grosor del colchón debe calcularse teniendo en cuenta que debe haber al menos 20 cm entre la superficie del colchón y la parte superior de la estructura. Fíjate en la marca de altura máxima del colchón.
- Ten cuidado de no poner el producto cerca de cigarrillos encendidos, fuego u otras fuentes de calor como radiadores eléctricos, a gas, etc.
- No utilices el producto si le falta alguna pieza o tiene alguna torcida o rota.
- Tamaño recomendado del colchón: 40x73 cm.

- Recomendado para 0-5 meses de edad o un máximo de 9 kg.

Cuidados y limpieza

- Limpiar con un paño suave humedecido en una solución de agua y un detergente neutro o jabón delicado.
- Para las partes de tejido, seguir las instrucciones de lavado presentes en el producto.

Portugues

**IMPORTANTE!
LEIA
ATENTAMENTE
E GUARDE PARA
REFERÊNCIA
FUTURA**

 **ATENÇÃO**

- **Leia as instruções de utilização antes de usar este artigo.**
- **Deixe de usar o artigo assim que a criança se conseguir sentar, ajoelhar ou levantar**
- **Colocar itens adicionais no artigo pode causar asfixia.**

- **Não coloque o artigo perto de outros que possam constituir perigo de asfixia ou estrangulamento, por exemplo, cordas, cordões de estores/cortinados, etc.**
- **Não use mais do que um colchão.**

ATENÇÃO:

- Não utilize o berço portátil sem a estrutura.
- Quando o bebé estiver no berço, não o deixe sem vigilância.

AVISO

- O intervalo entre o colchão e todos os lados do produto não deve ser superior a 30mm.

Informações importantes de segurança!

- Coloque o artigo num piso horizontal.
- Não deixe crianças pequenas brincarem sem supervisão nas proximidades do artigo.
- Certifique-se de que o artigo está bloqueado na posição fixa quando uma criança estiver nele sem supervisão.
- Antes de usar, aperte todas as ferragens de montagem adequadamente. Verifique todas as ferragens regularmente e volte a apertá-las quando for necessário. Deve ter-se cuidado para que nenhum parafuso fique solto, pois uma criança pode prender partes do corpo ou roupas (por exemplo, cordões, colares, fitas para chupetas de bebés, etc.), o que constitui risco de estrangulamento.
- O colchão deve ter uma espessura que permita que a altura da superfície superior do colchão à extremidade superior da estrutura seja de, pelo menos, 200mm, consulte a marca máxima do colchão.
- Tenha consciência do risco que representam

cigarros acesos, chamas abertas ou outras fontes de calor, como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc. na proximidade do artigo.

- Não use o artigo se alguma parte estiver partida, torcida ou em falta.
- O tamanho recomendado do colchão adequado é de 40x73cm.
- Para crianças entre os 0-5 meses ou um máximo de 9kg.

Cuidados de manutenção e limpeza

- Limpe com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- No caso dos têxteis, siga as instruções de lavagem no produto.

中文

重要提示！请仔细阅读，并妥善保存，以备日后参考。

 **警告！**

- **在未阅读产品使用说明前请勿使用本产品**
- **当孩子能够进行坐、**

跪等动作或自行拉起产品时，请停止使用本产品

- **在产品内放置其他物品可能会造成窒息风险**
- **请勿将产品放在绳子、卷帘/窗帘拉绳等可能导致窒息或勒死危险的产品旁。**
- **请勿在本产品上使用一张以上床垫**

警告！

- **请勿使用不带框架的婴儿床。**
- **当宝宝在婴儿床上时，请确保有人看护。**

警告！

- 床垫与本产品各侧面的空隙应不大于30mm。

重要安全信息！

- 请将产品置于水平地面
- 请勿让低龄儿童在无人监督的情况下在产品附近玩耍
- 当儿童在无人监督的情况下使用本产品时，请确保产品锁定在固定位置
- 在使用前请正确紧固所有组装配件。请定期检查所有零配件，必要时加以紧固。请确保螺丝无松动，以防挂住儿童身体或衣物的某些部位（如绳

子、项链、婴儿奶嘴带等），造成窒息事故

- 床垫厚度为床垫上表面到框架上边缘的高度，至多200毫米(7 7/8")，请见最大床垫尺寸标注
- 对产品周围未熄灭的香烟、明火和其他强热源（如电棒、煤气炉等）应重点关注，以免发生火灾
- 如有任何零部件损坏、破裂或丢失，请勿继续使用本产品
- 建议床垫尺寸：40x73cm（15³/₄英寸x28¹/₂英寸）
- 适合0-5个月或体重不超过9公斤的儿童使用。

护理和清洁

- 用沾有中性清洁剂的布充分擦洗
- 请遵循产品上的洗涤说明清洁纺织品

繁中

重要資訊！請仔細閱讀，並妥善保存，以供參考。

警告

- 請先仔細閱讀使用說明，再使用產品。
- 兒童可自行坐立、跪爬或撐起本體時請停止使用。

- 在產品中放置額外物件可能會造成窒息的危險。
- 請勿將產品放置在其他可能會造成窒息或纏勒的物品附近，例如繩子、窗簾繩等。
- 此產品只能使用一張床墊。

警告：

- 嬰兒搖籃必須連框使用
- 切勿將嬰兒獨自留在搖籃內，無人看顧

警告

- 床墊與產品各側之間間隙不得超過30公釐。

重要安全資訊！

- 請將產品放在水平地面上
- 請勿讓孩童在沒有成人監督的情況下，於產品附近玩耍
- 當孩童沒有成人監督下，請確保產品鎖在固定位置
- 請鎖緊所有組裝配件再開始使用。定期檢查所有配件，必要時須重新鎖緊。務必檢查沒有螺絲鬆脫，因孩童的身體或衣服（例如繩子、項鍊、奶嘴鍊等）有機會因鬆脫的螺絲而被困住而發生纏勒的危險。

- 床墊厚度應符合此標準：床墊上層表面與床框上緣之間的距離需超過20公分（7 7/8吋），參見床墊最大標示
- 在點燃的香煙、火源和其他熱源（例如電爐、瓦斯爐）附近使用產品時，須格外注意
- 若發現任何零件損壞、磨損或遺失，請停止使用產品。
- 床墊建議尺寸：40x73公分 (15 3/4吋 x 28 3/4吋)
- 適合0-5個月或最重9公斤的嬰兒使用

保養和清潔

- 用抹布沾溫和清潔劑擦拭乾淨。
- 有關布織品的清潔方法，請遵循產品上的洗滌說明。

한국어

**중요! 자세히 읽은
뒤 참고용으로 보관
하세요.**

경고

- 반드시 사용 설명서를 읽은 후 제품을 사용하십시오.
- 아이가 앉거나 무릎을 꿇거나 스스로 매달릴 수 있을 경우, 즉시 제품 사용을 중단하십시오.
- 제품에 추가 물품을 넣을 경우, 질식의 위험이 있습니다.
- 질식 또는 목졸림을 일으킬 위험이

있는 물건(예: 줄, 블라인드/커튼 끈 등) 가까이 제품을 두지 마십시오.

- **제품에 하나 이상의 매트리스를 사용하지 마십시오.**

주의:

- 프레임 없이 아기침대를 사용하지 마세요.
- 유아용침대에 있는 아기를 혼자 두고 자리를 비워서는 안 됩니다.

경고

- 매트리스와 제품의 모든 면 사이의 간격은 30mm를 초과해서는 안 됩니다.

주요 안전 정보

- 제품을 평평한 바닥에 놓아주세요.
- 보호자가 지켜보지 않을 때는 아이가 제품 근처에서 놀지 못하게 해주세요.
- 보호자가 지켜보지 않을 때는 제품이 움직이지 않도록 단단히 고정해주세요.
- 사용 전에 모든 부품이 단단히 조여졌는지 잘 확인해주세요. 모든 부품을 주기적으로 점검하고 필요한 경우 다시 조여주세요. 아이의 신체 일부나 옷(예: 줄, 목걸이, 유아용 젖꼭지의 스트랩 등)이 끼어 목이 졸릴 위험이 있으므로 나사가 느슨해지지 않도록 특히 주의해야 합니다.
- 매트리스 두께는 매트리스 윗면에서 프레임 상단까지의 높이가 200mm 이상이어야 합니다. 표시된 매트리스 최대 높이를 참고해주세요.
- 담뱃불, 벽난로 및 전기/가스 난로 등 강한 화기가 제품 가까이 있으면 위험하니 주의하세요.
- 제품의 부품이 손상되었거나 분실되었을 경우 절대 사용하지 마세요.
- 권장하는 매트리스 사이즈는 40x73cm입니다.
- 만 0~5개월이나 최대 9kg의 영유아가 사용하기에 적합합니다.

관리와 세척

- 중성 세제에 적신 천으로 깨끗하게 닦으세요.
- 텍스타일 제품의 경우, 제품에 명시된 세탁 지침을 따르세요.

**重要！ この説明
書をよくお読みにな
り、必要なとき
にご覧いただける
よう大切に保管し
てください**

 警告

- ・ 初めてご使用になる前に、必ず説明書をお読みください
- ・ お子さまがお座りやハイハイ、つかまり立ちができるようになったら、ただちに使用を中止してください
- ・ 本製品内にほかのものを置くと、窒息の原因になるおそれがあります
- ・ 窒息したり首に絡まったりする危険のあるもの（ひも、ブラインドやカーテンのコードなど）の近くに本製品を置かないでください

・ 本製品内で複数のマットレスを使用しないでください

警告：

- ・ ベビー用かご型ベッドをフレームのない状態で使用しないでください。
- ・ 乳児をベビーベッドに寝かせたまま1人きりで放置しないでください。

警告

- ・ マットレスと本製品のすべての側面との間のすき間が30mmを超えないようにしてください。

安全のための注意事項！

- ・ 水平な床に製品を置いてください。
- ・ 製品のそばで遊ばせるときは、必ず大人がつきそってください。
- ・ お子さまのそばを離れる際は、必ずロックされていることを確認してください。
- ・ ご使用前に、すべてのネジや固定具をしっかりと締めてください。すべての固定具を定期的にチェックし、必要に応じて締め直してください。ネジにゆるみがないよう十分に注意してください。お子さまの体や衣類（ひも、ネックレス、おしゃぶりのリボンなど）がはさまって窒息する危険があります。
- ・ マットレスは、ベッドに設置したときにマットレスの表面からベッドフレームの上端までの高さが200mm以上になる厚さのものをご使用ください。マットレスの最大の高さを示すマークを参照してください。
- ・ 本製品のすぐ近くに火の点いたタバコ、炎、電気・ガスなどその他の熱源を置かないでください。
- ・ パーツが破損、不足している場合には、本製品を使用しないでください。
- ・ マットレスの推奨サイズ：40x73cm
- ・ 対象：生後0～5カ月または体重9kg以下

お手入れ方法

- ・ 中性洗剤を含ませた布で拭いてください
- ・ テキスタイルは、製品に記載されたお手入れ方法に従ってください

Bahasa Indonesia

PENTING! BACA SECARA SAKSAMA DAN SIMPAN UNTUK REFERENSI MASA DEPAN

PERINGATAN

- **Jangan gunakan produk ini tanpa membaca petunjuk penggunaan terlebih dahulu**
- **Hentikan penggunaan produk segera setelah anak dapat duduk atau berlutut atau menarik dirinya ke atas**
- **Menempatkan item tambahan dalam produk dapat menyebabkan mati lemas**
- **Jangan letakkan produk dekat dengan produk lain, yang dapat menimbulkan**

bahaya mati lemas atau tercekik, mis. senar, tali gorden/tirai, dll.

- **Jangan gunakan lebih dari satu kasur dalam produk**

PERINGATAN:

- Jangan gunakan buaian tanpa rangka.
- Awasi bayi saat di dalam buaian.

PERINGATAN

- Jarak antara matras dan semua sisi produk tidak boleh lebih dari 30 mm.

Petunjuk keamanan penting!

- Tempatkan produk di lantai yang datar
- Jangan biarkan anak kecil bermain tanpa pengawasan di sekitar produk
- Pastikan produk terkunci dalam posisi stabil saat anak-anak berada di dalamnya dan tidak dalam pengawasan
- Kencangkan semua alat kelengkapan rakitan dengan benar sebelum digunakan. Periksa semua pelengkap secara teratur dan kencangkan kembali jika perlu. Harap berhati-hati agar tidak ada sekrup yang longgar, karena bagian tubuh atau pakaian anak dapat tersangkut (misalnya tali, kalung, pita untuk penenang bayi, dll.), yang dapat menimbulkan risiko tercekik
- Ketebalan kasur harus disesuaikan sehingga ketinggian dari permukaan atas kasur ke tepi atas bingkai setidaknya 200 mm (7 7/8"), lihat tanda kasur maksimum
- Waspada risiko rokok yang terbakar, api yang menyala, dan sumber panas kuat lainnya, seperti kebakaran akibat korslet listrik, kebakaran akibat gas bocor, dll. di sekitar produk
- Jangan gunakan produk jika ada bagian yang rusak, sobek atau hilang

- Ukuran kasur yang direkomendasikan adalah: 40x73 cm (15 3/4" x 28 3/4")
- Direkomendasikan untuk usia 0-5 bulan atau maksimum 9kg

Perawatan dan pembersihan

- Lap bersih dengan kain yang dibasahi dengan pembersih ringan
- Untuk tekstil ikuti petunjuk pencucian pada produk

Bahasa Malaysia

**PENTING! BACA
SECARA TELITI
DAN SIMPAN
SEBAGAI
RUJUKAN
PADA MASA
HADAPAN.**

AMARAN

- Jangan guna produk ini tanpa membaca arahan penggunaan terlebih dahulu
- Berhenti menggunakan

**produk sebaik sahaja
anak itu boleh duduk atau
berlutut atau berdiri sendiri**

- **Meletakkan barangan
tambahan di dalam produk
boleh menyebabkan sesak
nafas**
- **Jangan meletakkan
produk berdekatan dengan
produk lain, yang boleh
menyebabkan bahaya
sesak nafas atau terjerut,
misalnya, tali, kord bidai/
langsir, dll .**
- **Jangan guna lebih daripada
satu tilam di dalam produk.**

AMARAN:

- Jangan gunakan buai bayi tanpa rangka.
- Apabila bayi berada di dalam buaian, jangan tinggalkan bayi tanpa jagaan.

AMARAN

- Ruang antara tilam dan semua sisi produk tidak boleh melebihi 30 mm.

Maklumat penting keselamatan

- Tempatkan produk di atas lantai yang mendatar.
- Jangan biarkan kanak-kanak kecil bermain tanpa seliaan berada di dalam kawasan produk ditempatkan.
- Pastikan yang produk dikunci pada kedudukan yang kekal apabila kanak-kanak berada tanpa seliaan di dalamnya.

- Ketatkan semua kelengkapan pemasangan dengan betul sebelum digunakan. Periksa semua kelengkapan secara kerap dan ketatkan semula jika perlu. Sila ambil langkah lebih berhati-hati agar tidak ada skru yang longgar, kerana bahagian badan atau pakaian boleh memerangkap bayi (misalnya tali, rantai leher, riben untuk puting bayi, dll.) yang boleh mengakibatkan risiko terbelit.
- Ketebalan tilam hendaklah sedemikian rupa agar ketinggian dari permukaan atas tilam ke tepi atas rangka sekurang-kurangnya 200 mm (7 7/8"), lihat tanda maksimum tilam.
- Berhati-hati risiko terhadap api terbuka dan sumber haba kuat yang lain seperti api bar elektrik, api gas dan lain-lain berdekatan dengan kawasan produk ditempatkan.
- Jangan gunakan produk jika terdapat mana-mana bahagian yang rosak, koyak atau hilang.
- Saiz sesuai tilam disyorkan ialah: 40x73cm (15 3/4" x 28 3/4").
- Disyorkan untuk yang berumur 0-5 bulan atau maksimum 9 kg.

Penjagaan dan pembersihan

- Lap bersih dengan kain yang dilembapkan dengan bahan pencuci yang tidak begitu kuat
- Untuk tekstil ikuti arahan mencuci pada produk

عربي

**هام! يرجى قراءتها
بعناية وحفظها
للرجوع إليها في
المستقبل**

تحذير

- لا تستخدمى هذا المنتج دون قراءة تعليمات الاستخدام أولاً
- توقفى عن استخدام المنتج بمجرد أن يصبح الطفل قادراً على الجلوس أو الركوع أو سحب نفسه للأعلى
- قد يؤدي وضع أشياء إضافية في المنتج إلى التعرض للخطر.
- لا تضعي المنتج بالقرب من منتج آخر قد يشكل خطر التعرض للخطر، على سبيل المثال. الأربطة، حبال الستائر، إلخ.
- لا تستخدمى أكثر من مرتبة واحدة في المنتج

تحذير:

- لا تستخدمى المهد بدون الهيكل.
- عندما يكون الطفل في المهد، لا تدعيه دون رقابة.

تحذير

- يجب ألا يزيد الفراغ بين المرتبة وجميع جوانب المنتج عن 30 مم.

معلومات مهمة للسلامة!

- يجب وضع المنتج على أرضية مسطحة
- لا تدعي الأطفال يلعبون بالقرب من المنتج دون رقابة
- تأكدي من إغلاق المنتج في الوضعية الثابتة عندما لا يكون مع الطفل شخص بالغ
- نبغي ربط جميع التركيبات بإحكام وبشكل صحيح قبل الاستخدام. افحصي جميع التركيبات بانتظام وأعيدي ربطها عند الحاجة. يجب الحرص على عدم وجود براغي مفككة، لأن بعض أجزاء جسم الطفل قد تحتك بها أو تعلق أجزاء من

ملابسه إذا كانت تحتوي على أشياء مثل الخيوط والقلائد وشرائط لهايات الأطفال وغيرها، مما قد يشكل خطراً للتعرض إلى الخنق.

- يجب أن يكون سمك المرتبة بحيث لا يقل الارتفاع من السطح العلوي للمرتبة إلى الحافة العلوية للهيكل عن 200 مم (7 7/8 بوصة)، انظري علامة الحد الأقصى للمرتبة
- يجب الانتباه لخطر السجائر المشتعلة والنار وغيرها من مصادر الحرارة الشديدة، مثل المواقد الكهربائية والغازية وغيرها بحيث لا تكون بالقرب من المنتج
- لا تستخدم المنتج إذا كانت أي من أجزائه مكسورة أو ممزقة أو مفقودة
- الحجم الموصى به للمرتبة المناسبة هو: 40x73 سم (3/4 15 بوصة × 28 3/4 بوصة)
- العمر الموصى به 0-5 أشهر بحد أقصى للوزن 9 كجم

العناية والتنظيف

- امسحي بقطعة قماش مبللة بمنظف لطيف.
- للمنسوجات، يُرجى اتباع تعليمات الغسيل الموجودة على المنتج

ไทย

**ข้อมูลสำคัญ! กรุณา
อ่านให้ละเอียดและ
เก็บข้อมูลนี้ไว้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ใช้**

⚠ คำเตือน!

- ห้ามใช้สินค้าหากยังไม่ได้อ่านคู่มือการใช้งาน

- **หยุดใช้เตียงเด็กเมื่อเด็กสามารถนั่งคลาน หรือลุกได้เอง**
- **การนำอุปกรณ์อื่นมาใช้ร่วมกับสินค้าอาจเกิดอันตรายจากการขาดอากาศหายใจได้**
- **ห้ามวางสินค้าไว้ใกล้สิ่งของที่อาจทำให้เด็กขาดอากาศหายใจหรือรัดคอเด็กได้ เช่น เชือกหรือสายเตียงม่าน เป็นต้น**
- **ห้ามใช้ที่นอนมากกว่า 1 ชั้น กับสินค้าชิ้นนี้**

คำเตือน:

- ห้ามใช้เตียงการกแบบไม่มีโครงเตียง
- ขณะเด็กนอนอยู่ในเปลเด็ก ห้ามปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง

คำเตือน

- ช่องว่างระหว่างที่นอนและเตียงเด็กในทุกด้านจะต้องไม่เกิน 30 มม.

ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย!

- วางสินค้าบนพื้นราบ
- ห้ามให้เด็กเล่นตามลำพังในบริเวณที่มีสินค้านี้
- หากต้องปล่อยให้เด็กนอนบนเตียงตามลำพัง ต้องล็อกเตียงเด็กอ่อน/เปลเด็กเสมอ เพื่อไม่ให้เตียงขยับได้
- ยึดสกรูที่ใช้ประกอบอุปกรณ์ทุกชิ้นให้แน่นหนาก่อนการใช้งาน ตรวจสอบเป็นประจำว่าสกรูทุกตัวแน่นหนาดี ถ้าหลวมให้ขันให้แน่น หมั่นตรวจสอบความแน่นหนาของสกรูอยู่เสมอ เพราะสกรูที่หลวมอาจทำให้เกิดช่องหรือรู ที่อาจเป็นเหตุให้อวัยวะหรือเสื้อผ้าของเด็ก (เช่น เชือก สร้อยคอ ริบบิ้นติดจุกนมหลอก เป็นต้น) เข้าไปติดหรือรัดคอเด็กได้
- ความหนาของที่นอนที่เหมาะสมคือขอบที่นอนต้องอยู่ต่ำกว่าขอบด้านบนของเตียงอย่างน้อย 200 มม. (7 7/8") ดูเครื่องหมายความสูงสูงสุดของที่นอน
- ห้ามวางสินค้าไว้ใกล้บูหรี่ติดไฟ เปลวไฟ หรือแหล่งให้ความร้อนอื่น เช่น เตาไฟฟ้า เตาแก๊ส ฯลฯ
- ห้ามใช้สินค้า ถ้ามีชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายหรือขาดหายไป
- ขนาดที่นอนที่เหมาะสม: 40x73 ซม. (15 3/4" x 28 3/4")

- เหมาะสำหรับการรกแรกเกิดถึง 5 เดือน หรือน้ำหนักไม่เกิน 9 กก.

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

- เช็ดด้วยผ้าบิดหมาดชุบน้ำยากำความสะอาดสูตรอ่อนโยน
- สำหรับผ้าและสิ่งทอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดบนผลิตภัณฑ์

